

70290 - قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے کیا کچھ ممنوع ہے ؟

سوال

حاجی کے لیے دوسرے مسلمانوں پر عشرہ ذوالحجہ میں کیا کچھ کرنا واجب ہے ؟
یعنی کیا قربانی کرنے سے قبل ناخن اور بال کاٹنے اور مہندی لگانی اور نیا لباس پہننا جائز نہیں ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے یا پھر جلد کاٹنا حرام ہے، لیکن اس کے لیے نیا لباس زیب تن کرنا اور مہندی اور خوشبو لگانا یا پھر بیوی سے جماع اور مباشرت کرنی حرام نہیں۔

یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے اہل خانہ کے باقی افراد کے لیے نہیں، اور جسے قربانی کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے چنانچہ اس کی بیوی اور بچوں اور وکیل پر یہ اشیاء حرام نہیں۔

اس حکم میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، اس لیے اگر عورت اپنی جانب سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو چاہے وہ شادی شدہ ہے یہ شادی شدہ نہیں تو عمومی نصوص کی بنا پر اس کے لیے اپنے بال اور ناخن کاٹنے منع ہیں۔

اور اسے احرام کا نام نہیں دیا جا سکتا؛ کیونکہ احرام تو صرف حج یا عمرہ کے لیے ہوتا ہے، اور پھر محرم شخص احرام کی چادریں زیب تن کرتا ہے اور اس کے لیے خوشبو کا استعمال اور بیوی سے جماع کرنا اور شکار کرنا جائز نہیں، لیکن قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ سب کچھ جائز ہے، صرف اس کے لیے بال اور ناخن کٹوانے اور اپنی جلد کاٹنی ممنوع ہے۔

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والا شخص اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے"

صحیح مسلم حدیث نمبر (1977) .

اور ایک روایت میں ہے کہ:

" تو وہ اپنے بال اور جلد میں سے کچھ بھی نہ کاٹے " بشرہ انسان کی ظاہری جلد کو کہتے ہیں .

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے:

" قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد مشروع ہے کہ وہ قربانی کرنے تک

اپنے بال اور ناخن اور اپنی جلد نہ کاٹے ؛ اس کی دلیل بخاری کے علاوہ باقی آئمہ حدیث کی درج ذیل روایت ہے:

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور قربانی کرنا چاہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو "

اور ابو داؤد اور نسائی کے الفاظ یہ ہیں:

" جو شخص بھی قربانی کرنا چاہے تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے "

چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی ہو یا کسی کو قربانی کرنے کا وکیل بنایا ہو، لیکن جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے حق میں ایسا کرنا مشروع نہیں، مثلاً بیوی بچے کیونکہ اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں، اور اسے احرام کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ محرم شخص تو وہ ہے جو حج یا عمرہ یا پھر دونوں کا احرام باندھے انتہی .

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (11 / 397) .

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء سے درج ذیل سوال کیا گیا:

حدیث میں ہے کہ:

" جو شخص قربانی کرنا چاہے یہ اس کی جانب سے قربانی کی جائے تو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لیکر قربانی

کرنے تک اپنے بال اور ناخن اور اپنی جلد نہ کاٹے "

کیا یہ ممانعت سارے گھر والوں میں چھوٹے سے لیکر بڑے تک کے لیے ہے، یا کہ صرف بڑے کے لیے ہے چھوٹے

کے لیے نہیں ؟

کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا:

" ہمارے علم میں نہیں کہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں جو سائل نے بیان کیے ہیں، بلکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ باقی آئمہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹائے "

اور ابو داود کے الفاظ یہ ہیں - اور مسلم اور نسائی کے بھی یہی ہیں:

" جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اس کی قربانی کرنا چاہتا ہو تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن اور اپنی جلد نہ کٹوائے "

چنانچہ یہ حدیث قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لیکر قربانی کرنے تک بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔

پہلی روایت میں امر اور ترك کا حکم ہے اور اس میں اصل وجوب کا مقتضی ہے، اس اصل سے کسی اور معنی میں لینا ہمارے علم میں تو نہیں، اور دوسری روایت میں کاٹنے کی ممانعت ہے، اور اس کا تقاضا تحریم ہے یعنی کاٹنے کی حرمت، اس میں بھی اس معنی کے علاوہ کوئی معنی لینے کی کوئی دلیل ہمارے علم میں تو نہیں۔

تو اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ حدیث صرف اس شخص کے لیے خاص ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اور جس کی جانب سے قربانی کی جارہی ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لیے اپنے ناخن اور بال کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، اصل میں اس کے لیے جائز ہے، اور اس اصل کے خلاف ہمارے علم میں تو کوئی دلیل نہیں ہے " انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (11 / 426)۔

دوم:

استطاعت نہ ہونے کی بنا پر جو شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنا حرام نہیں، اور جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اور وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے تو اس پر کوئی فدیہ لازم نہیں آتا، لیکن اس کے لیے توبہ و استغفار کرنا واجب ہے۔

ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس پر فرض ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، نہ تو ٹنڈ کرائے اور نہ ہی بال چھوٹے کرائے، اور جو شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے یہ لازم نہیں۔

دیکھیں: المحلی ابن حزم (3 / 6)۔

اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر ناخن اور بال نہیں کاٹے جائینگے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے توبہ و استغفار کرنا ہوگی، بالاجماع اس پر کوئی فدیہ نہیں، چاہے وہ یہ فعل عمدا کرے یا بھول کر۔

دیکھیں: المغنی ابن قدامہ (9 / 346)۔

فائدہ:

امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اس نہی میں حکمت یہ ہے کہ: کامل اجزاء آگ سے آزادی کے لیے باقی رہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ: محرم کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر۔

یہ دونوں وجہیں امام نووی نے بیان کی ہیں، اور اصحاب شافعی سے بیان کیا جاتا ہے کہ دوسری وجہ غلط ہے؛ کیونکہ نہ تو وہ عورتوں سے علیحدہ ہوتا ہے، اور نہ ہے خوشبو اور لباس کا استعمال اس کے لیے ممنوع ہے اس کے علاوہ باقی اشیاء جو حالت احرام میں ممنوع ہیں وہ بھی ممنوع نہیں۔

دیکھیں: نیل الاوطار (5 / 133)۔

واللہ اعلم .